



سوال

(52) عذاب قبر کا ثبوت قرآن سے؟

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

عذاب قبر و سوال نکرمین کا اعتقاد جو شریعت محمدیہ میں مسلم الثبوت و احادیث صحیحہ و کثیرہ سے ثابت ہے۔ بعض احباب اس کا ثبوت قرآن شریف سے چاہتے ہیں۔ (ظہیر حسین)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

عذاب قبر کا ثبوت ملتا ہے۔ فرعونیوں کے حق میں مذکور ہے (النار لیرضون علیہا غدواً و غشیاً و یومئذ یقوم الساعۃ اذ یلواء ال فرعون أشد العذاب ۴۶ سورة غافر فرعونیوں کو آگ کے عذاب پر صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ارشاد ہے (ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون ۱۰۰ سورة المؤمنون حدیثوں میں ان دو آیاتوں کی تفصیل ہے۔

تشریح

یہ عذاب قبر بطوحوالات کے ہے۔ پورا عذاب قیامت میں ہوگا۔ اسی طرح اسے کلاس کے لوگوں کے لئے قبر میں کچھ راحت بھی ہے۔ پوری راحت قیامت کو ملے گی۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ ثنائیہ امرتسری



مجلس البحث والدراسات
محدث فتویٰ

جلد 01 ص 194

محدث فتویٰ